

غزل

شعلوں میں عکس ہے ترے رعبِ جلال کا پھولوں پہ رنگ ہے ترے حسن و جمال کا
ہمت ہے شرطِ خاص رہِ انقلاب میں بن جا نمونہ اس صفتِ بے مثال کا
جو چاہتا ہے کر مگر اتنا خیال رکھ ہر وقت سامنے رہے نقشہ آں کا
ممکن اگر ہو قصہٴ ماضی کو بھول جا تیرا ہر ایک لفظ ہو آئینہٴ "حال" کا
ہاں، طے خوشیوں سے کئے جا رہے عمل اے بے خرد! یہ دقت نہیں قیل و قال کا
نظائر ساقی! مے نشاط کے ساغر پلائے جا مطرب! سادے گیت کوئی برنگال کا
لے جذبہٴ خلوص سے وہ کام اے نظائر
نقشہ بدل دے اہل جہاں کے خیال کا

غزل

جناب

قیس

رامپوری

جستجو میں تری سو بار حرم تک پہنچا
پھر بھی یہ سر نہ ترے نقشِ قدم تک پہنچا
سامنے منزلِ مقصود نظر آتی ہے
اور اے ہمتِ دل چند قدم تک پہنچا
جب یقین تجھ کو مری حالتِ غم کا نہ ہوا
ہو کے مجبور ترے سر کی قسم تک پہنچا
آنکھ روئی جو لہو بھی تو نتیجہ کیا تھا
اُس کا دامن نہ مرے دیدہٴ غم تک پہنچا
ہے یہ اُمید کہ سائل نہ پھرے گا خالی
ہاتھ جس دم ترے دامنِ کرم تک پہنچا
اگئے آنکھ میں میا ختہ اُن کی آنسو
کہتے کہتے جو میں افسانہٴ غم تک پہنچا
قیس مجھ سے ہی رہی دشتِ جنوں میں رونق
کوئی وحشی نہ مرے نقشِ قدم تک پہنچا